چند نیکیاں

اور

ایصالِ ثواب

اضافہ شدہ

حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب مدظلہم

مکتبۃ الاسلام کراچی

www.sukkurvi.com

چند نیکیاں

اور

ایصالِ ثواب

www.Sukkurvi.com

چند نیکیاں

اور

ایصالِ ثواب

اضافہ شدہ

اس میں چند چھوٹی، اور آسان نیکیاں، لکھی گئی ہیں، اور ان کا عظیم ثواب بتایا گیا ہے۔

تالیف

حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب مدظلہم

مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی

مکتبۃ الاسلام کراچی

www.Sukkurvi.com

حقوق طبع محفوظ

باہتمام : شاہد محمود

ناشر : مکتبۃ الاسلام کراچی

کورنگی، انڈسٹریل ایریا کراچی

موبائل : 0300-8245793

ای میل : maktabatulislam@gmail.com

طباعت : القادر پرنٹنگ پریس کراچی - 021-3514128-82-83-84

www.Sukkur.com

ملنے کا پتہ

ادارۃ المعارف کراچی

احاطہ جامعہ دارالعلوم کراچی

موبائل : 0300- 2831960

فون : 021- 35123161 ، 021- 35032020

ای میل : Imaarif@live.com

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون

پیش لفظ.......... ۱۳

شیطان سے حفاظت.......... ۱۵

وضوء سے پہلے بِسْمِ اللّٰہِ، وَالْحَمْدُ
لِلّٰہِ پڑھنے کی فضیلت.......... ۱۶

مستجابُ الدعوات ہونا اور بے شمار
نیکیاں ملنا.......... ۱۹

چار بیماریوں سے تحفظ.......... ۲۲

سو عربی غلام آزاد اور سو قربانی کرنے کا
ثواب.......... ۲۳

www.Sukkurvi.com

صفحہ	مضمون

سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ
معاف........................ ۲۷
عمل کے لحاظ سے سب سے افضل ہونا ۲۸
ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں........ ۳۱
دس لاکھ نیکیاں اور دس لاکھ درجے بلند
ہونا........................... ۳۱
شبِ قدر کے برابر ثواب.......... ۳۴
بیس لاکھ نیکیاں.................. ۳۵
تسبیحِ فاطمی کی عظیم فضیلت......... ۳۷

www.Sukkurvi.com

مضمون	صفحہ
سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ معاف..........	۴۲
حج اور عمرہ کے برابر ثواب..........	۴۳
روزی میں برکت اور پریشانی دور ہونا.	۴۴
ستر ہزار فرشتوں کا استغفار..........	۴۶
بستر پر مرنے والے کو شہداء کا درجہ ملنا.	۴۸
قیامت کے غم سے نجات..........	۴۹
دوزخ سے نجات..........	۵۰
لا الہ الا اللہ کہنے پر بخشش........	۵۲

www.Sukkurvi.com

صفحہ	مضمون
۵۳	جہاد کرنے اور سونا، چاندی صدقہ کرنے سے بھی افضل عمل ....
۵۴	جنت میں درخت ....
۵۵	شہید سے پہلے جنت میں جانا ....
۵۶	جنت میں داخلہ کی ضمانت ....
۵۷	نماز پر جنت کا وعدہ ....
۵۸	نماز اور دعا کی قبولیت ....
۶۰	جماعت کی نماز کا ثواب تین کروڑ نمازوں سے زیادہ ....

www.Sukkurvi.com

صفحہ	مضمون

دو پروانے	۶۳
ہر قدم پر ایک سال کے روزوں اور شب کی عبادت کا ثواب	۶۴
نمازِ جمعہ کے لئے پہلے آنے کا درجہ....	۶۶
دو سو سال کی عبادت کا ثواب	۶۷
بے شمار گناہوں کی بخشش	۶۸
چھ لاکھ آدمیوں کی مغفرت	۷۱
جمعہ کی ہر عبادت ستّر گناہ بڑھ جاتی ہے	۷۲
دعا کی قبولیت	۷۲

www.Sukkurvi.com

مضمون	صفحہ

عیادت کرنے پر ستّر ہزار فرشتوں کی
دعا............ ۷۴
سو حاجتیں پوری ہونا............ ۷۸
دنیا و آخرت کی تنگی سے بچنا............ ۸۰
جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنا............ ۸۲
طواف کی عظیم فضیلت............ ۸۳
دُرود شریف لکھنے کی عظیم فضیلت...... ۸۵
قیامت کے روز جمعہ کے دن درود
شریف پڑھنے کی بدولت نورِ عظیم ملنا... ۸۹

www.Sukkur.com

صفحہ	مضمون

ایک بار درُود شریف پڑھنے پر چار انعام.......... ۸۹

احد پہاڑ کے برابر ثواب.......... ۹۲

مرنے سے پہلے جنت کا محل دیکھنا..... ۹۴

ستَّر فرشتوں کا ایک ہزار دن تک ثواب لکھنا.......... ۹۵

۸۰ سال کی عبادت کا ثواب.......... ۹۷

دوسو سال کے گناہ معاف.......... ۹۹

جمعہ کے دن درُود شریف کی کثرت کرنا ۱۰۰

www.Sukkurvi.com

مضمون	صفحہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درُود شریف پڑھنے والے کے لئے استغفار........	١٠٢
یٰسین شریف کی فضیلت..........	١٠٤
سورۂ دخان اور سورۂ یٰسٓ کی فضیلت...........	١٠٥
١٥ منٹ میں ١٠ قرآن کریم کا ثواب..	١٠٦
سورۃُ الفاتحۃ	١٠٧
آیۃُ الکرسی............	١٠٩
سورۃُ القدر............	١١٠

www.Sukkurvi.com

صفحہ	مضمون

سورۃُ الزلزال	۱۱۱
سورۃُ العادیات..........	۱۱۳
سورۃُ التکاثر..........	۱۱۴
سورۃُ الکافرون..........	۱۱۵
سورۃُ النصر	۱۱۶
سورۂ اخلاص کے فضائل..........	۱۱۷
ایک قرآن کریم کے برابر ثواب.......	۱۱۸
جنت میں ایک محل..........	۱۱۸
چار قرآنِ کریم کا ثواب..........	۱۱۹

www.Sukkurvi.com

صفحہ	مضمون

پچاس سال کے گناہ معاف.......... ۱۱۹

ہزاروں ملائکہ کی صف بندی.......... ۱۲۰

آسان ایصالِ ثواب................ ۱۲۲

دس قرآنِ کریم کا ثواب............. ۱۲۴

ایصالِ ثواب کا طریقہ.............. ۱۲۵

○ ○ ○

www.Sukkurvi.com

پیش لفظ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

احادیثِ طیبہ کے مطالعہ کے دوران بعض مرتبہ بعض اعمال بہت آسان اور ہلکے پھلکے نظر سے گزرتے ہیں جن کا اجر وثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، جی چاہتا ہے، ان کو جمع کرلیا جائے، تاکہ عام مسلمان خواتین وحضرات بھی ان کو پڑھیں، اور عمل کرکے ثوابِ عظیم پائیں، اِسی غرض سے یہ چند نیکیاں لکھی گئی ہیں، ان کو حقیر اور

www.Sukkurvi.com

معمولی سمجھ کر چھوڑنا نہ چاہئے، جیسے کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کرنا نہ چاہئے۔

اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے والا، اور نیکیوں کا کرنے والا، اور ان کا حریص بنائے، اور تا زندگی اس کی توفیقِ وافر عطا فرمائے آمین، بِحُرمَةِ سَیِّدِ المُرسَلِینَ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّمَ۔

www.Sukkurul.com

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

شیطان سے حفاظت

شیطان انسان کا دشمن ہے جو ہر طرح انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے شر سے بچنے کے لئے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بوقتِ صبح (ایک مرتبہ) اَعُوۡذُ بِاللّٰہِ السَّمِیۡعِ الۡعَلِیۡمِ مِنَ الشَّیۡطَانِ الرَّجِیۡمِ پڑھے تو شام تک شیطان (کے شر) سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ (کنز العمال)

www.Sukurvi.com

وضوء سے پہلے بِسْمِ اللّٰہِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ پڑھنے کی عظیم فضیلت

عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: "یَا أَبَا هُرَیْرَةَ، إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ: بِسْمِ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، فَإِنَّ حَفَظَتَکَ لَا تَسْتَرِیحُ تَکْتُبُ لَکَ الْحَسَنَاتِ حَتّٰی تُحْدِثَ مِنْ ذٰلِکَ الْوُضُوْءِ"

ترجمہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو

www.Sukkurvi.com

ہریرہ! جب تم وضوء کرو تو (اس نے شروع میں) بِسْمِ اللّٰہِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ پڑھ لیا کرو، جب تک تم باوضوء رہو گے فرشتے تمہارے لئے مسلسل نیکیاں لکھتے رہیں گے۔(أخرجه الطبرانی فی المعجم الصغیر وحسن الھیثمی اِسنادہ)

تشریح

جو شخص وضو کے شروع میں ایک مرتبہ بِسْمِ اللّٰہِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ پڑھے گا۔ جب تک اُس کا وضو نہیں ٹوٹے گا فرشتے برابر اُس کے لئے نیکیاں لکھتے ہیں۔

www.Sukkurvi.com

دوسری حدیث میں اللہ کا نام وضو کے شروع میں لینے کی فضیلت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص اللہ کا نام لے کر وضو شروع کرتا ہے اور جب وضو سے فارغ ہوتا ہے تو سر سے پیر تک بال بال اس کا گناہوں سے پاک ہوجاتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا نام لئے بغیر وضو کرتا ہے تو صرف اعضاءِ وضو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، باقی اعضاء گناہوں سے پاک نہیں ہوتے۔

اللہ تعالیٰ کے نام میں یہ کلمے بھی شامل ہیں: بِسْمِ اللّٰہِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اور یہ بہت ہی آسان نیکی ہے۔ لہٰذا یہ کلمات وضو کے شروع میں پڑھنے

www.Sukkurvi.com

چاہئیں اوران کو پڑھ کر وضو شروع کرنا چاہئے۔

مستجابُ الدعوات ہونا اور بیشمار نیکیاں ملنا

(ا)......من استغفر للمؤمنين

والمؤمنات كل يوم سبعا وعشرين

مرة او خمسا وعشرين

مرة ـــ احد العددين ـــ كان من

الذى يستجاب لهم ويرزق بهم

أهل الأرض (رواه الطبرانى فيالكبير)

(ا)...... من استغفر للمؤمنين

والمؤمنات، كتب له بكل

www.Sukkurvi.com

مؤمن ومؤمنة حسنة. (رواه

الطبرانی)

وقال محشیه : أحادیثه قابلة للعمل لا سیما فی فضائل الأعمال، والأحادیث الضعیفة، أیضاً معتبرة فی فضائل الأعمال.

ترجمہ

جو شخص روزانہ ۲۷ مرتبہ اَللّٰھُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ پڑھتا ہے اس کو تین فضیلتیں ملتی ہیں:

www.Sukkurvi.com

پہلی فضیلت: اللہ تعالیٰ اُس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ (یعنی یہ شخص جب بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اِس کی دعا قبول فرمائیں گے۔

دوسری فضیلت: اللہ تعالیٰ اِس کو اُن لوگوں میں شامل کر دیتے ہیں جن کے طفیل ساری مخلوق کو روزی ملتی ہے۔

تیسری فضیلت: جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ دوسری اُمتوں کے ہوں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں گزر چکے ہوں یا موجود ہوں یا آئندہ آئیں گے، سب کے برابر اس کو نیکی

www.Sukkurvi.com

کرنے کا ثواب ملے گا۔(رواہ الطبرانی)

تشریح

یہ عمل رات میں یا دن میں کسی بھی وقت ایک مرتبہ ۲۷ بار کرنا کافی ہے۔

چار بیماریوں سے تحفظ

آج کل بے شمار بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں جس قدر دواخانے، شفاخانے اور ہسپتال بن رہے ہیں بیماریاں اِن سے زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ چنانچہ جن بیماریوں کا کبھی نام تک نہ سُنا تھا آج وہ عام پائی جاتی ہیں، حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار خطر ناک بیماریوں سے تحفظ کا بہت آسان طریقہ بیان

www.Sukkurvi.com

فرمایا ہے، ملاحظہ کیجئے اور عمل کیجئے!

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(اے قَبِیْصَه !) جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو نمازِ فجر کے بعد تین مرتبہ (یہ کلمات) کہہ لیا کرو! سُبْحَانَ اللّٰہِ الْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِہٖ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ. اللہ تعالیٰ تمہیں چار بلاؤں سے محفوظ رکھیں گے جذام، جنون، اندھاپن اور فالج سے۔ (عمل الیوم واللیلۃ)

سو عربی غلام آزاد اور سو قربانی کرنے کا ثواب

حضرت اُمّ ہانی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے عرض

www.Sukkurmi.com

کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں بوڑھی ہوگئی، ہوں ضعیف ہوں کوئی ایسا عمل بتادیجئے کہ بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سُبْحَانَ اللّٰہِ سو مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم نے سو عربی غلام آزاد کیے اور اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ سو مرتبہ پڑھا کرو اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم نے سو گھوڑے مع سامان لگام وغیرہ کے جہاد میں سواری کے لئے دے دیئے اور اَللّٰہُ اَکْبَرُ سو مرتبہ پڑھا کرو یہ ایسا ہے گویا تم نے سو اُونٹ قربانی میں ذبح کیے اور وہ قبول ہوگئے اور لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ سو مرتبہ پڑھا کرو اس کا ثواب تو تمام آسمان زمین

www.Sukurvi.com

کے درمیان کو بھر دیتا ہے اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں جو مقبول ہو۔ (رواہ احمد باسناد حسن)

تشریح

کمزوروں اور بوڑھوں بالخصوص عورتوں کے لئے کس قدر آسان اور مختصر عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا ہے دیکھئے ایسے آسان اور مختصر عمل پر جس میں نہ زیادہ مشقت ہے، نہ چلنا پھرنا ہے، کتنے بڑے بڑے ثوابوں کا وعدہ ہے۔ کتنی کم نصیبی ہوگی اگر ان کو حاصل نہ کیا جائے۔ حضرت اُمِّ سُلَیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کوئی چیز مجھے

www.Sukkurvi.com

تعلیم فرمادیجئے جس کے ذریعہ سے نماز میں دُعا کیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سُبْحَانَ اللّٰہ، اَلْحَمْدُ لِلّٰہ، اَللّٰہُ اَکْبَر ۱۰۔۱۰ مرتبہ پڑھ لیا کرو اور چاہے اس کے بعد دعا کرو، دوسری حدیث میں اس کے بعد یہ ارشاد ہے کہ جو چاہے دعا کیا کرو حق تعالیٰ شانہ اس دعا پر فرماتے ہیں ہاں ہاں (میں نے قبول کی) کتنے آسان اور معمولی الفاظ ہیں جن کو نہ یاد کرنا پڑتا ہے نہ ان میں کوئی محنت اٹھانی پڑتی ہے دن بھر لوگ فضول باتوں اور کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ تجارت کے ساتھ دکان پر بیٹھے بیٹھے، یا کھیتی اور باغ کے ساتھ زمین

www.Sukkurvi.com

کے انتظامات میں مشغول رہتے ہوئے اگر زبان سے ان تسبیحات کو پڑھتے رہیں تو دنیا کی کمائی کے ساتھ آخرت کی کتنی بڑی دولت ہاتھ آجائے۔ اللہ پاک توفیق دیں! آمین

سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ معاف

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ایک دن میں سو مرتبہ سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہٖ پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف کردیئے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ (بخاری ومسلم)

www.Sukkurvi.com

تشریح

مذکورہ کلمہ سو مرتبہ ایک دن میں تھوڑا تھوڑا کئی مرتبہ کر کے پڑھا جائے یا ایک مرتبہ میں پڑھا جائے اور خواہ صبح پڑھا جائے یا دوپہر یا شام کو پڑھا جائے، ہر طرح درست ہے، لیکن ایک ہی مرتبہ میں صبح کے وقت پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ (مظاہرِ حق جدید)

عمل کے لحاظ سے سب سے افضل ہونا

حضرت عبد الرحمٰن بن غَنَم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ

www.Sukkurvi.com

نے فرمایا: جو شخص فجر کی اور مغرب کی نماز جہاں پڑھے وہاں سے اٹھنے سے پہلے اور قبلہ سے منہ پھیرنے سے پہلے دس مرتبہ یہ کلمات کہے:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ
لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ
الْخَيْرُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى
كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ.

تو اس کے لئے ہر بار پڑھنے کے بدلہ دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور دس گناہ مٹائے جاتے ہیں اور اس کے دس درجے بلند کئے جاتے ہیں، اور یہ کلمات اس کیلئے ہر بری اور ناگوار چیز سے اور

www.Sukuwi.com

شیطان مردود سے حفاظت کا باعث ہوں گے (یعنی اس پر کسی دینی یا دنیوی آفت و مصیبت کا کوئی اثر نہ ہوگا اور نہ شیطان اس پر حاوی ہوگا) اور شرک کے علاوہ کسی اور گناہ پر (اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی توفیق اور اس کے صحیح ہونے کی وجہ سے اس کی) پکڑ نہ ہوگی (لیکن اگر اس نے شرک کرلیا تو پھر اس کی بخشش نہ ہوگی)، اور ایسا شخص تمام لوگوں میں عمل کے لحاظ سے سب سے افضل ہوگا مگر جو شخص اس سے بڑھ کر عمل کرے تو بہر حال وہ اس سے بھی افضل ہوگا۔(رواہ احمد)

www.Sukkurvi.com

ایک لاکھ ۲۴ ہزار نیکیاں

حضرت ابنِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص سُبحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمدِہٖ (ایک بار) کہے تو اس کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ (کنز العمال ص ۲۲۶، جلد ۲)

(ف) ہر نماز کے بعد دس مرتبہ یا ۳۳ مرتبہ پڑھ لیا کریں اور کیا ہی اچھا ہو کہ سو مرتبہ صبح اور ۱۰۰ مرتبہ شام پڑھ لیا کریں۔ اور اس کے ساتھ سُبحَانَ اللّٰہِ العَظِیمِ بھی ملا لیا کریں۔

دس لاکھ نیکیاں اور دس لاکھ درجے ملنا

بازار غفلتوں اور گناہوں کی جگہ ہے اور بازار

www.Sukkurvi.com

جانا ایک ضرورت بھی ہے، اگر وہاں خریداری کے دوران اللہ پاک کا ذکر ہوتا رہے تو خیر ہی خیر ہے، حدیث میں درج ذیل ذکر کی بڑی فضیلت آئی ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہو کر یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ اس

www.Sukkurvi.com

کے لئے دس لاکھ نیکیاں لکھتے ہیں اور دس لاکھ (صغیرہ) گناہ معاف فرماتے ہیں اور دس لاکھ درجے بڑھاتے ہیں (ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ) اور اس کیلئے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ (ترمذی)

تشریح

ان کلمات کو خاص طور پر یاد کرلینا چاہیئے، اور بازار میں رہنے کے دوران اور آنے جانے کے دوران ان کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیئے تاکہ مذکورہ فضیلت حاصل ہو۔ (آسان نیکیاں بتصرف)

www.Sukkurvi.com

شبِ قدر کے برابر ثواب

قرآنِ کریم کی رو سے شبِ قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور ایک ہزار مہینوں میں تیس ہزار راتیں ہوتی ہیں اور سالوں کی تعداد تراسی (۸۳) سال چار۴ ماہ بنتی ہے جو محض حق تعالیٰ کا انعام ہی انعام ہے، اور چونکہ ان کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے اس لئے اگر وہ کسی اور عمل پر بھی شبِ قدر کا ثواب دیدیں تو ان کے خزانۂ رحمت میں کچھ کمی نہیں آتی، چنانچہ درج ذیل کلمات تین مرتبہ کہنے سے شبِ

www.Sukkurvi.com

قدر کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ بھی یاد کر لیں اور

یہ ثواب حاصل کریں۔

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ

سُبحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوَاتِ السَّبعِ

وَرَبِّ العَـرشِ العَـظِيمِ.

(کنز العمال ص ۶۲۲ ج ۲)

www.sukkurvi.com

بیس لاکھ نیکیاں

حضرت عبداللہ بن اَبی اَوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا: جو شخص لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ وَحدَهٗ

لَاشَرِيکَ لَهٗ اَحَداً صَمَداً لَم يَلِدْ وَلَم يُوْلَدْ

وَلَم یَکُن لَّہٗ کُفُواً اَحَدٌ. پڑھے اس کے لئے بیس لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ (رواہ الطبرانی)

تشریح

کس قدر اللہ جل شانہٗ کا انعام ہے کہ ایک معمولی سی چیز کے پڑھنے پر جس میں نہ مشقّت، نہ وقت خرچ ہو، پھر بھی بیس لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں لیکن ہم لوگ اس قدر غفلت اور دُنیاوی اغراض حاصل کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعام والطاف کی بارشوں سے کچھ حاصل نہیں کرتے!!

www.Sukurvi.com

تسبیحِ فاطمی کی عظیم فضیلت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ (ایک دن) فقراءِ مہاجرینؓ رسولِ کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور

عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مالدار لوگ بلند درجات

اور (جنت کی) دائمی نعمت حاصل کرنے میں ہم

سے سبقت لے گئے اور ہم ان سے پیچھے رہ گئے

آپؐ نے دریافت فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے عرض

کیا وہ اِس طرح کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ

بھی پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں

وہ بھی رکھتے ہیں (ان اعمال میں تو وہ اور ہم برابر

www.Sukkurvi.com

ہیں لیکن مال ودولت کی وجہ سے) وہ صدقہ وخیرات کرتے ہیں اور (ہم غربت وافلاس کی وجہ سے) صدقہ وخیرات نہیں کر سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے (اس طرح وہ ان اعمال کے اجر وثواب کے حقدار ہو جاتے ہیں اور مال نہ ہونے کی وجہ سے ہم محروم رہ جاتے ہیں، یہ سن کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسی بات نہ بتادوں؟ جس پر عمل کر کے تم ان لوگوں کے درجات اور ثواب کو حاصل کرلو جو تم سے پہلے اسلام لا چکے ہیں اور ان لوگوں کے مرتبہ سے بڑھ جاؤ جو تمہارے بعد اسلام

www.Sukkurki.com

لائے ہیں یا پیدا ہوں گے اور (مالدار لوگوں میں سے کوئی شخص تم سے بہتر نہ ہوگا سوائے اس شخص کے جو تم ہی جیسا عمل کرے (یعنی مالدار لوگوں نے اگر میری بتائی ہوئی اس بات پر عمل کیا تو پھر مرتبہ کے اعتبار سے وہی تم سے بہتر ہوں گے) فقراءِ صحابہؓ نے عرض کیا بہتر ہے، ارشاد فرمایئے (وہ کیا عمل ہے؟)

آپ نے فرمایا: تم لوگ ہر نماز کے بعد سُبْحَانَ اللّٰه، اَللّٰهُ اَکْبَر اور اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ تینتیس مرتبہ پڑھ لیا کرو! (حدیث کے راوی حضرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ (کچھ دنوں کے بعد)

www.Sukkurvi.com

فقراءِ مہاجرینؓ (پھر) رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہمارے مالدار بھائیوں نے ہمارے اس عمل کے بارے میں سنا اور وہ بھی کرنے لگے جو ہم کرتے ہیں، (اس طرح پھر وہی لوگ ہم سے افضل ہوگئے!) آپ نے فرمایا: یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔

(بخاری ومسلم)

تشریح

اس حدیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ "ہر نماز کے بعد سُبْحَانَ اللّٰه، اَللّٰهُ اَكْبَر اور اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

www.sukkurwi.com

تینتیس مرتبہ پڑھو' اس کے دو مطلب ہیں،

ایک مطلب یہ ہے کہ تینوں کلمات کو مجموعی طور پر تینتیس مرتبہ پڑھا جائے اس طرح کہ گیارہ مرتبہ سُبْحَانَ اللہ، گیارہ مرتبہ اَللّٰہُ اَکْبَر اور گیارہ مرتبہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ پڑھیں،

دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کلمات کو الگ الگ تینتیس تینتیس مرتبہ پڑھا جائے، چنانچہ مشائخ کا اِسی پر عمل ہے اور یہی افضل ہے۔ اور بعض روایات میں اس کی صراحت بھی ہے۔

(مأخذ: مظاہر حق)

www.Sukkurvi.com

اور بعض روایات میں سونے سے پہلے بھی ان تسبیحات کے پڑھنے کی ترغیب اور فضیلت ہے۔

سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ معاف

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ سُبْحَانَ اللّٰہ، ۳۳ مرتبہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اور ۳۳ مرتبہ اَللّٰہُ اَکْبَر کہے اور یہ ۹۹ مرتبہ ہو گئے اور سوویں مرتبہ:

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَاشَرِیْکَ

www.Sukkurvi.com

لَہُ، لَہُ الْمُلْکُ وَلَہُ الْحَمْدُ

وَھُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ کہے۔
اس کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے، اگرچہ وہ تعداد میں سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ (مسلم)

حج اور عمرہ کے برابر ثواب

حضرت ابواُمامہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: جو شخص کوئی فرض نماز جماعت سے ادا کرنے کے لئے پیدل چلتا ہے تو اس کا ثواب ایک حج کے برابر

www.Sukkurvi.com

ہے، اور جو شخص کوئی نفل نماز ادا کرنے کے لئے جاتا ہے تو اس کا ثواب کامل عمرہ کے مانند ہے۔

(ابو داؤد)

روزی میں برکت اور پریشانی دور ہونا

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بندہ پابندی سے استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے اور نجات پانے کا راستہ بنادیں گے اور اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی دور کر کے کشادگی اور اطمینان عطا فرمادیں گے اور اس کو ان طریقوں سے رزق دیں گے جن کا

www.Sukkurvi.com

اس کو خیال وگمان بھی نہ ہوگا۔ (سنن ابی داؤد)

تشریح

یہ فضیلت اور وعدہ اس وقت ہے جب دل وجان سے استغفار کیا جائے اور استغفار کی حقیقت یہ ہے:

استغفار کے معنیٰ ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں، غلطیوں، کوتاہیوں اور قصوروں کی معافی اور بخشش مانگنا۔

استغفار کرنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، گناہگاروں کے لئے رحمت ومغفرت کا ذریعہ ہے اور نیک بندوں کے لئے درجات کی بلندی اور

www.Sukurvi.com

اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا بہت بڑا وسیلہ ہے، احادیثِ طیبہ میں اس کے بڑے فضائل اور بڑا ثواب آیا ہے۔

ستر ہزار فرشتوں کا استغفار

حضرت ابوسَعِید خُدرِیّ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص نماز پڑھنے کے لئے گھر سے نکلے اور راستہ میں یہ دعا پڑھے:

اَللّٰھُمَّ اِنِّی اَسْئَلُکَ بِحَقِّ السَّائِلِیْنَ عَلَیْکَ وَبِحَقِّ مَمْشَایَ ھٰذَا، فَاِنِّی لَمْ اَخْرُجْ اَشَرًا، وَلَا بَطَرًا، وَلَا

www.Sukurvi.com

رِيَاءً، وَلَا سُمْعَةً، وَخَرَجْتُ اِتِّقَاءَ،

سَخَطِكَ، وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ،

فَأَسْئَلُكَ أَنْ تُعِيْذَنِيْ مِنَ النَّارِ، وَأَنْ

تَغْفِرَلِيْ ذُنُوْبِيْ، إِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ

إِلَّا أَنْتَ. (ابن ماجه)

تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس کے لئے ستر ہزار فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لئے استغفار کرتے ہیں یعنی دعاءِ مغفرت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندہ کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں یہاں تک وہ اپنی نماز پوری کر لے۔ (نتائج الافکار وقال ابن حجر حدیث حسن)

www.Sukkurvi.com

تشریح

دن میں پانچ مرتبہ نماز ادا کرنے کے لئے مسجد جانا ہی ہوتا ہے، اگر مذکورہ دعا زبانی یاد یا دیکھ کر پڑھ لیا کریں تو بآسانی روزانہ پانچ مرتبہ ستر ہزار فرشتوں کا استغفار ملے اور اللہ تعالیٰ خاص توجہ کا مستحق بنے جو بندہ کے لئے بڑی دولت اور بڑی نعمت ہے، اس لئے یہ دعا یاد کر لینی چاہئے۔

بستر پر مرنے والے کو شہداء کا درجہ ملنا

حضرت سَہَل بن اَبی اُمَامَہ رضی اللہ عنہ اپنے والد اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی

www.Sukkurki.com

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ شہادت مانگی، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے درجوں تک پہنچادیں گے، اگرچہ اس کا انتقال اپنے بستر پر ہو۔ (رواہ مسلم)

تشریح

شہیدوں کا بڑا اونچا درجہ اور مقام ہے، شہادت کی دعا کرنے سے بآسانی یہ مقام مل سکتا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ بھی اس کے مانگنے کا معمول بنالیں!

قیامت کے غم سے نجات

حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،

www.sukkurvi.com

وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ وہ قیامت کے دن اس کے غم سے محفوظ وماموں رہے، تو وہ تنگدست مقروض کو قرض ادا کرنے کے لئے مہلت دے یا بالکل ہی قرضہ معاف کر دے۔(رواہ مسلم)

دوزخ سے نجات

دنیا کی ساری تکالیف مل کر جہنم کے کسی ادنیٰ عذاب کے برابر نہیں ہو سکتیں ، دوزخ کا عذاب بہت ہی ہولناک ہے، اللہ پاک محفوظ رکھیں، ’’آمین‘‘ ذیل میں اس سے بچنے کا ایک آسان

www.Sukkurvi.com

طریقہ بیان کیا گیا ہے، دل کی گہرائی سے صبح وشام
اس پر عمل کرنا چاہئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو
اَللّٰھُمَّ اَجِرْنِیْ مِنَ النَّارِ سات مرتبہ کہو کیونکہ
جب تم یہ کلمات کہو گے اور اسی رات تمہارا انتقال
ہو گیا تو تمہارے واسطے جہنم سے آزادی کا ایک
پروانہ لکھ دیا جائے گا، اسی طرح فجر کی نماز سے
فارغ ہو کر یہ کلمات سات مرتبہ کہو، اگر اس روز
تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہارے لئے دوزخ سے
آزادی کا ایک پروانہ لکھ دیا جائے گا۔ (کنز العمال)

www.Sukkurvi.com

لا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کہنے پر بخشش

رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے، جب بندہ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کہتا ہے تو یہ ستون ہلنے لگتا ہے، حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں: ٹھہر جاؤ، وہ ستون عرض کرتا ہے میں کیسے ٹھہر جاؤں؟ حالانکہ ابھی اس کلمہ کے پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہوئی، اس پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا میں نے اس کی مغفرت کر دی چنانچہ وہ ستون ٹھہر جاتا ہے۔

(ف) چلتے پھرتے اگر اس کلمہ کو پڑھنے کا معمول بنالیں تو یہ آسان بھی ہے اور ثوابِ عظیم کا

www.Sukkurvi.com

ذریعہ اور مغفرت کا سامان بھی ہے۔

جہاد کرنے اور سونا، چاندی صدقہ کرنے سے بھی افضل عمل

حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہارے اعمال میں سب سے اچھا اور سب سے زیادہ تمہارے درجات کو بلند کرنے والا عمل نہ بتلاؤں؟ جو تمہارے لئے سونا چاندی صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے اور تمہارا اپنے دشمن سے اس طرح لڑنے سے بھی اچھا ہے کہ وہ تمہیں قتل

www.Sukkurvi.com

کرے اور تم اُسے قتل کرو! (یعنی جہاد وقتال سے بھی وہ عمل بہتر ہے) صحابۂ کرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ جل شانہ کا ذکر کرنا ہے۔ (مجمع الزوائد و اسنادہ حسن)

تشریح

ذکر اللہ خواہ جونسا بھی ہو، اس کا معمول بنانا چاہیے کیونکہ یہ آسان بھی ہے اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔

جنت میں درخت

سُبحَانَ اللّٰہِ، اَلحَمدُ لِلّٰہِ، لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ اور

www.Sukkurvi.com

اَللّٰہُ اَکْبَرُ (ایسے پیارے کلمات ہیں کہ) ان میں سے ہر کلمہ (کہنے کے عوض) جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ (ماخذہ، کنز العمال ص ۱۶۴ ج۔۱)

شہید سے پہلے جنت میں جانا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ کے دو شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہوگئے اور دوسرے صاحب کا ایک سال بعد انتقال ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا تھا، وہ اس شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگئے تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ

www.Sukkurvi.com

بہت اونچا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عرض کیا یا کسی اور نے عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن صاحب کا بعد میں انتقال ہوا، ان کی نیکیاں نہیں دیکھتے کہ (ایک سال میں) کتنی زیادہ ہو گئیں؟ ایک رمضان المبارک کے پورے روزے بھی ان کے زیادہ ہوئے اور چھ ہزار اور اتنی رکعتیں نماز کی ایک سال میں اُن کی بڑھ گئیں۔ (الترغیب)

جنت میں داخلہ کی ضمانت

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق

www.Sukkurvi.com

تعالیٰ شانہ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری اُمت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس کا میں نے اپنے لئے عہد کرلیا ہے کہ جو شخص ان پانچ نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا، اُس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ (الترغیب)

نماز پر جنت کا وعدہ

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

www.Sukkurvi.com

جومسلمان بندہ اچھی طرح وضو کرے، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہوکر پوری دلی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھے تو جنت اس کے لئے ضرور واجب ہو جائے گی۔ (مسلم شریف)

تشریح

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نماز کی پابندی اور سنت کے مطابق اُس کی ادائیگی نمازی کے لئے جنت میں جانے کا یقینی ذریعہ ہے لہٰذا اس کو ضرور اپنانا چاہئے۔

نماز اور دعا کی قبولیت

حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

www.Sukkurvi.com

نے فرمایا: جب آدمی رات کو کسی وقت جاگ جائے اور رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ یہ کلمات کہے:

لَا اِلٰـــهَ اِلَّا اللّٰـــهُ وَحْدَهٗ، لَا شَرِيكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

اور پھر اللہ پاک سے بخشش مانگے اور کہے اَللّٰھُمَّ اغْفِرْلِیْ اے اللہ! مجھے بخش دے۔ تو اللہ پاک اس کو بخش دیتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو دعا

www.Sukkurvi.com

مانگے ، اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتے ہیں اور اگر ان کلمات کو پڑھنے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کی نماز قبول فرما لیتے ہیں۔ (مشکوٰۃ)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو جب بھی آنکھ کھلتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، یہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت اللہ پاک نے قبولیت کا وعدہ کیا ہے، لہٰذا ہر آدمی کو آنکھ کھلتے ہی یہ کلمات پڑھنے چاہئیں۔

جماعت کی نماز کا ثواب تین کروڑ نمازوں سے زیادہ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

www.Sukkurvi.com

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے ستائیس درجے زیادہ ہوتی ہے۔ (الترغیب)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی ہو، اُس نماز سے جو گھر میں پڑھ لی ہو یا بازار میں پڑھ لی ہو، پچیس درجہ مُضاعف ہوتی ہے، اور بات یہ ہے کہ جب آدمی وضوء کرتا ہے اور وضوء کو کمال درجہ تک پہنچادیتا ہے پھر مسجد کی طرف نماز کے ارادہ سے چلتا ہے، کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا

www.sukkurwi.com

تو جو قدم بھی رکھتا ہے، اُس کی وجہ سے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک خطا معاف ہوتی ہے اور پھر جب نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ باوضوء بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اُس کے لئے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے، وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے۔ (الترغیب)

تشریح

بعض علماء نے ان احادیث کے بارے میں فرمایا ہے کہ پہلے جماعت کی نماز کا ثواب پچیس گنا تھا، بعد میں ستائیس گنا کر دیا گیا اور بعض علماء نے

www.Sukkurji.com

یہ فرمایا ہے کہ حدیثِ بالا میں مُضاعَف کا ترجمہ دو چند اور دو گنا کا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جماعت کی نماز کا ثواب پچیس مرتبہ دو گنا ہوتا چلا جاتا ہے، اس صورت میں جماعت کی ایک نماز کا ثواب تین کروڑ پینتیس لاکھ چوّن ہزار چار سو بتیس درجہ ہوا۔ حق تعالیٰ شانہ کی رحمت سے یہ ثواب کچھ بعید نہیں جیسا کہ ایک نماز چھوڑنے پر دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال تک دوزخ میں جلنے کا ذکر گزر چکا ہے۔ (خلاصہ از فضائل نماز)

دو پروانے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص

www.Sukkurvi.com

چالیس دن اخلاص کے ساتھ اس طرح نماز باجماعت پڑھے کہ تکبیرِ اولیٰ فوت نہ ہو تو اس کو دو پروانے (پرچے) ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ (الترغیب)

www.sukkurvi.com

ہر قدم پر ایک سال کے روزے اور شب کی عبادت کا ثواب

حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کروایا (مثلاً بیوی سے صحبت کی اور اس کو غسل کرنا پڑا یا بچوں کو نہلایا)، اور خود

بھی غسل کیا اور صبح سویرے نمازِ جمعہ ادا کرنے کے لئے مسجد میں گیا، اور امام کے قریب بیٹھا اور خطبہ کے دوران خاموش رہا، تو اس کو ہر قدم کے عوض ایک سال کے روزے اور ایک سال رات بھر عبادت کا ثواب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لئے اتنا ثواب عطا فرمانا آسان ہے، کچھ مشکل نہیں۔ (رواہ الترمذی وحسّنہ)

تشریح

جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے جلدی جانے کا کتنا عظیم ثواب ہے؟ اگر کسی شخص کے سو قدم ہوگئے تو اس کے لئے سو سال کے روزوں اور سو

www.Sukkurvi.com

سال تک رات میں جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب دیا جائے گا، اس لئے نمازِ جمعہ ادا کرنے کے لئے جلدی جانا چاہئے۔ تاخیر سے جانے میں اپنا ہی نقصان ہے جو بڑا نقصان ہے۔

نمازِ جمعہ کے لئے پہلے آنے کا درجہ

''حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں: کہ میں حضرت عبد اللہ (بن مسعودؓ) کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لئے گیا تو آپ نے تین آدمیوں کو دیکھا کہ وہ (ان سے) پہلے (جمعہ ادا کرنے کے لئے مسجد میں پہنچ چکے ہیں (تو انہیں دیکھ کر) فرمانے لگے: میں چوتھا (ہوں) اور چوتھا

www.Sukurvi.com

بھی کچھ دور نہیں (اس کے بعد فرمایا) میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس ترتیب سے بیٹھیں گے جس طرح (وہ دنیا میں) جمعہ کے لئے جایا کرتے تھے، پہلا اور دوسرا اور تیسرا، پھر فرمایا (میں) چوتھا (ہوں) اور چوتھا بھی کچھ دور نہیں۔"

(جمع الفوائد)

دوسو سال کی عبادت کا ثواب

"حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن

www.Sukkurvi.com

غسل کرلے تو اس کی خطائیں اور گناہ
معاف کردیئے جاتے ہیں، پھر جب وہ
(نمازِ جمعہ ادا کرنے کے لئے) چلنا شروع
کرتا ہے تو ہر قدم کے بدلہ اس کے لئے
بیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں، (اس کے
بعد) جب وہ نمازِ جمعہ ادا کرکے واپس لوٹتا
ہے تو اسے دوسو سال کی عبادت کا ثواب
دیا جاتا ہے۔" (رواہ الطبرانی وفی سندہ
ضعف)

بے شمار گناہوں کی بخشش

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

www.sukkur.com

کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص سوتے وقت اس طرح گناہوں کی معافی مانگے:

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

ترجمہ

میں اس اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں جو حیؓ وقیوم ہے، اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔

اور تین مرتبہ کہے تو اللہ جل شانہ اس کے تمام گناہ معاف فرمادیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں یا وادیِ عالج (جہاں بہت ریت ہی ریت ہے) کی ریت کے ذرّوں کے

www.Sukkurvi.com

برابر ہوں یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں یا دنیا کے دن ورات کے برابر ہوں۔ (ترمذی شریف)

تشریح

مطلب یہ ہے کہ سونے سے پہلے مذکورہ بالا کلمات کے ذریعہ توبہ واستغفار کرنے سے تمام گناہِ صغیرہ معاف ہوجائیں گے خواہ جتنے بھی ہوں اور کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوجاتے ہیں، اس لئے سونے سے پہلے خود بھی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیئے کیونکہ یہ استغفار بڑی نعمت ہے۔

www.Sukurvi.com

چھ لاکھ آدمیوں کی مغفرت

''حضرت اَنَس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کو چھ لاکھ آدمی جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، وہ سب ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے (اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے اپنے اوپر) جہنم کو واجب کرلیا ہوتا ہے۔'' (رواہ البیھقی وفی اسنادہ ضعف)

www.Sukkurvi.com

جمعہ کی ہر عبادت ستّر گناہ بڑھ جاتی ہے

"حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تمام ایام کو پیدا فرمایا اور ان میں سے جمعہ کے دن کو منتخب فرمایا، چنانچہ جمعہ کے دن انسان جو نیک عمل بھی کرتا ہے وہ اس کے لئے ستّر گنا بڑھا کر لکھا جاتا ہے۔" (الحظ الاوفر)

دعا کی قبولیت

حضرت علی بن اَبی طالب رضی اللہ تعالیٰ

عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ جمعہ (کے دن) ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی مسلمان شخص اللہ تعالیٰ سے جو خیر مانگے اللہ تعالیٰ اس کو وہ خیر عطا فرمادیتے ہیں۔" (مجمع الزوائد)

تشریح

وہ گھڑی کس وقت ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں تقریباً چالیس اقوال ہیں، ان میں سے دو قول زیادہ اہم ہیں:

○...... جب خطیب پہلا خطبہ دے کر منبر پر بیٹھے اس وقت دعا مانگنا — لیکن اس وقت ہاتھ

www.Sukkurvi.com

اُٹھا کر یا زبان سے آہستہ یا زور سے دعا مانگنا ممنوع ہے، ہاں دل میں دعا کر سکتے ہیں۔

○......سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے دعا کرنا۔

یعنی جمعہ کے دن سورج غروب ہونے سے تقریباً دس، پانچ منٹ پہلے دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔

عیادت کرنے پر ستر ہزار فرشتوں کی دعا

بیمار شخص کی بیمار پرسی بھی بڑے اجر و ثواب کا عمل ہے اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں، بیمار پرسی بھی ان میں داخل ہے اور

www.Sukkurvi.com

سنت ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے چند احادیث ملاحظہ ہوں:

حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرنے جاتا ہے تو وہ مسلسل جنت کے باغ میں رہتا ہے۔(صحیح مسلم)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ:

جو مسلمان صبح کے وقت کسی دوسرے مسلمان کی

www.Sukkurvi.com

عیادت کو جاتا ہے تو شام تک ستّر ہزار فرشتے اس کے لئے دعاءِ خیر کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ شام کے وقت کسی کی عیادت کو جاتا ہے تو اگلی صبح تک ستّر ہزار فرشتے اس کے حق میں دعاءِ خیر کرتے رہتے ہیں، اور اس کو جنت کا ایک باغ دیا جاتا ہے۔(رواہ الترمذی)

حضرت اَنَس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر اپنے کسی مسلمان (مریض) بھائی کی اخلاص کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے عیادت کرے تو اس کو

www.Sukkurvi.com

ستّر سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ (رواہ ابو داؤد)

تشریح

یاد رہے بیمار پرسی کی جس قدر احادیث میں فضیلت ہے، اس سے زیادہ اِسلام میں اس کی تاکید ہے کہ اپنے کسی عمل سے مریض کو ذرا بھی تکلیف نہ دی جائے، چنانچہ اگر مریض سے ملاقات مُضر ہو تو اس پر اِصرار کرنا جائز نہیں، مریض کے تیمارداروں سے حال پوچھ لے اور عرض کر دے کہ کسی مناسب وقت پر مریض کو بتادیں کہ فلاں شخص عیادت کے لئے آیا تھا اور وہ

www.Sukkurvi.com

آپ کے لئے دعا کرتا ہے۔

مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے، بلکہ مختصر عیادت کر کے چلا آئے، کیونکہ زیادہ دیر بیٹھنے سے اکثر مریض کو تکلیف ہوتی ہے، ہاں جس بے تکلّف شخص کو مریض بٹھانا چاہے، اس کے بیٹھنے میں کوئی مضائقہ نہیں، نیز بیمار پرُسی کے لئے مناسب وقت کا انتخاب بھی نہایت ضروری ہے، بے وقت عیادت کے لئے جانا یا فون کرنا درست نہیں۔ (آسان نیکیاں بتصرف)

سو حاجتیں پوری ہونا

"نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس

www.Sukkurvi.com

بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک قیامت کے دن ہر جگہ سے میرے سب سے زیادہ قریب تم میں سے وہ شخص ہوگا جو دنیا میں تم میں سے سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا، جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات سو مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری فرمائیں گے، ستر آخرت کی اور تیس دنیا کی، پھر اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر

www.Sukkurvi.com

فرماتے ہیں جو اس (درود شریف) کو (میرے پاس) میری قبر میں لاتا ہے، جیسے تمہارے پاس ہدایا لائے جاتے ہیں، وہ (فرشتہ) مجھے اس شخص کے نام ونسب اور قبیلہ کے بارے میں بتاتا ہے جس نے مجھ پر درود پڑھا ہے، پھر اس کو وہ میرے پاس ایک سفید کتاب میں محفوظ کر دیتا ہے۔" (شعب الایمان)

دنیا وآخرت کی تنگی سے بچنا

ایک روایت میں حضرت بی بی عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب رات کو بیدار ہوتے تو دس

www.Sukkurvi.com

مرتبہ تکبیر کہتے ، اَللّٰہُ أَکْبَرُ، اَللّٰہُ أَکْبَرُ، اَللّٰہُ أَکْبَرُ، اس کے بعد دس مرتبہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ، کہتے پھر دس مرتبہ سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہٖ، سُبْحَانَ اللّٰہِ الْعَظِیْمِ، کہتے پھر دس مرتبہ آپ استغفار کرتے تھے، أَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ، پھر دس مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتے، لَا إِلٰـہَ إِلَّا اللّٰہُ پھر دس مرتبہ آپ یہ دعا کرتے تھے، اَللّٰھُمَّ إِنِّی أَعُوْذُ بِکَ مِنْ ضِیْقِ الدُّنْیَا، وَضِیْقِ یَوْمِ الْقِیَامَۃِ اے اللہ! مجھے دنیا کی تنگی سے اور آخرت کی تنگی سے پناہ دیجئے گا۔

(مواعظِ سکھروی ج ۱ ص ۸۳۲،۹۳۲)

یہ عمل بہت آسان ہے، اس کو کرنا چاہئے اور

www.Sukkurvi.com

تہجد میں اٹھتے وقت ان کلمات کو پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہئے، اللہ پاک توفیق بخشیں، آمین،

جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنا

"حضرت اَنَس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر ہزار مرتبہ درود شریف پڑھے گا، تو وہ اس وقت تک نہ مرے گا، جب تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے۔" (سبل الھدی والرشاد بسند ضعیف)

www.sukurvi.com

طواف کی عظیم فضیلت

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے آپ نے فرمایا: جو شخص (سنت کے مطابق) کامل وضو کرے (اور طواف کے لئے) حجرِ اَسود کے پاس آئے تاکہ اس کا اِستلام کرے تو وہ (اللہ تعالیٰ کی) رحمت میں داخل ہوجاتا ہے، پھر (جب حجرِ اسود کا) اِستلام کرکے وہ یہ کلمات کہتا ہے:

بِسمِ اللّٰہِ اَللّٰہُ اَکبَرُ أَشھَدُ أَن لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحدَہٗ لَاشَرِیکَ لَہٗ وَاَشھَدُ

www.Sukkurvi.com

أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور جب وہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم پر سترّ ہزار نیکیاں عطا فرماتے ہیں، ستر ہزار گناہ (صغیرہ) معاف کرتے ہیں اور اس کے ستر ہزار درجے بلند کئے جاتے ہیں اور (قیامت کے دن) اس کے اہلِ خانہ کے ستر افراد کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔

اس کے بعد جب وہ مقامِ ابراہیم پر آ کر دو رکعت بحالتِ ایمان اور ثواب کی نیت سے ادا کرتا ہے تو اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں

www.Sukkurvi.com

سے چار غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوجاتا ہے جیسے اس روز تھا جس روز اُس کی ماں نے جنا تھا۔(خرج الاصبھانی فی الترغیب)

تشریح

اللہ اکبر! طواف کی کتنی بڑی فضیلت ہے، جس کو بھی یہ دولت کمانے کا سنہری موقعہ حاصل ہو اس کو دل سے اس کی قدر کرنی چاہیئے۔

دُرود شریف لکھنے کی عظیم فضیلت

دُرود شریف لکھنے کی ایک بہت بڑی فضیلت

www.Sukkurvi.com

ایک حدیث میں یہ ہے کہ:

ترجمہ

"جب کوئی آدمی کسی کتاب میں نبیِ اکرم جناب رسول اللہ ﷺ پر درود شریف لکھتا ہے، تو جب تک وہ درُود شریف اس کتاب میں لکھا رہے گا (اور جب تک وہ کتاب باقی رہے گی) اس درُود شریف لکھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہیں گی۔" (جلاء الافہام)

مثلاً اگر وہ کتاب سو سال تک دنیا میں رہی اور سو سال تک اس میں درُود شریف لکھا رہا تو اس کو سو

www.Sukulvi.com

سال تک اس کا ثواب ملتا رہے گا اور دُرود شریف لکھنے کی ایک دوسری فضیلت یہ ہے کہ:

''ملائکہ اس دُرود شریف لکھنے والے کے لئے اس وقت تک استغفار کرتے رہیں گے جب تک اس کا لکھا ہوا درود شریف کتاب میں لکھا رہے گا۔'' (جلاء الافہام)

تشریح

ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات محدثین رحمہ اللہ کو انشاء اللہ تعالیٰ دُرود شریف لکھنے کا کتنا ثواب ملے گا کیونکہ وہ ہر حدیث میں حضور صلی

www.Sukkurvi.com

اللہ علیہ وسلم کے اسمِ گرامی کے ساتھ پورا درود شریف لکھنے کا اہتمام فرماتے ہیں جس کی وجہ سے بعض مرتبہ ایک ہی سطر میں دو تین مرتبہ بھی درود شریف لکھتے ہیں اور وہ حضرات درود شریف لکھنے میں ذرا بھی بخل سے کام نہیں لیتے، اس لئے ہمیں چاہیئے کہ جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ پورا دُرود شریف لکھیں۔ دُرود شریف کی جگہ صرف (ؐ) یا (صلعم) لکھنے کا یہ ثواب نہیں بلکہ ایسا کرنا گناہ ہے کیونکہ ازروئے حدیث یہ بخل و کنجوسی میں داخل ہے۔ لہٰذا خالی (ؐ) یا (صلعم) لکھنے سے اجتناب کریں۔

www.Sukkurvi.com

قیامت کے روز جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی بدولت نورِ عظیم ملنا

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر سو مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے ساتھ (ایک ایسا) نور ہو گا کہ اگر وہ ساری مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کے لئے کافی ہو۔ (کنز العمال ص ۵۰۷، ج ۲)

ایک بار درُود شریف پڑھنے پر چار انعام

درُود شریف بہت فضیلت والی اور بڑی مقبول

www.Sukkurvi.com

عبادت ہے۔ایک روایت میں آتا ہے کہ:

مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ مِنْ اُمَّتِى صَلَاةً مُخلِصاً مِنْ قَلْبِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرَ صَلَواتٍ وَرَفَعَهُ بِهَا عشر دَرَجَاتٍ وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشَرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشَرَ سَيِّئَاتٍ.

(أخرجه النسائی والطبرانی)

ترجمہ

''جو شخص ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے تو

۱......اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دس رحمتیں نازل

www.Sukurvi.com

فرماتے ہیں،

۲......اوراس کے دس درجے بلند فرماتے ہیں،

۳......اور دس نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں،

۴......اور دس گناہِ (صغیرہ) معاف فرمادیتے ہیں۔"

(نسائی)

تشریح

اس حساب سے جو آدمی دس مرتبہ دُرود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سو رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے سو درجے بلند فرماتے ہیں، سو گناہِ صغیرہ معاف فرمادیتے ہیں اور سو نیکیاں اس کے نامۂ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور جو شخص سو

www.Sukkurvi.com

مرتبہ درُود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک ہزار رحمتیں نازل فرمائیں گے، اس کے ایک ہزار درجے بلند فرمائیں گے، ایک ہزار گناہِ صغیرہ اس کے معاف فرمادیں گے اور ایک ہزار نیکیاں اس کو عطا فرمائیں گے۔ کم از کم سو مرتبہ درُود شریف تو صبح وشام پڑھنا ہی چاہیے۔ سو مرتبہ درُود پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہر مسلمان مرد و عورت، صبح وشام نہایت آسانی سے سو مرتبہ درُود پڑھ سکتا ہے۔

اُحد پہاڑ کے برابر ثواب

ایک حدیث میں ہے کہ:

www.Sukkurwi.com

”جب کوئی آدمی درُود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا ثواب اُحد پہاڑ کے برابر عطا فرمائیں گے“۔

(مصنف عبدالرزاق)

تشریح

جبلِ اُحد مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں ایک مشہور پہاڑ ہے اور یہ پہاڑ وہاں کے سارے پہاڑوں میں سب سے بڑا ہے۔ اسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُحد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس اُحد پہاڑ کے وزن کے برابر درُود شریف

www.Sukkurvi.com

پڑھنے والے کے نامۂ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو اندازہ کرو کہ درُود شریف پڑھنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے!!!

مرنے سے پہلے جنت کا محل دیکھنا

ایک حدیث میں ہے کہ:

"مَنْ صَلَّی عَلَیَّ فِیْ یَوْمٍ اَلْفَ مَرَّۃً لَمْ یَمُتْ حَتّٰی یَرٰی مَقْعَدَہٗ مِنَ الْجَنَّۃِ" (القول البدیع)

ترجمہ

"جو شخص دن میں ایک ہزار مرتبہ درُود شریف پڑھے گا تو اس کا اس وقت تک

www.Sukurvi.com

انتقال نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنی
آنکھوں سے جنت میں اپنا محل نہیں دیکھ
لے گا۔"

ستر فرشتوں کا ایک ہزار دن تک ثواب لکھنا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
جو شخص یہ دعا کرے:

جَزَی اللّٰہُ تَعَالٰی عَنَّا مُحَمَّداً مَا
هُوَ اَهلُهٗ

ترجمہ

اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے حضرت محمد صلی اللہ

www.Sukkurvi.com

علیہ وسلم کو ایسا بدلہ دے جس کے وہ لائق اور مستحق ہیں، تو اس کا ثواب ستّر فرشتوں کو ایک ہزار دن مشقت میں ڈالے گا۔ (رواہ الطبرانی)

تشریح

مطلب یہ ہے کہ مذکورہ کلمات کہنے سے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک اس کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ستر فرشتے ایک ہزار دن تک اس کے لئے استغفار کرتے رہیں گے (ذریعۃ الوصول) اور ایک ہزار دن کے تقریباً پونے تین سال ہوتے ہیں، سبحان اللہ ان کلمات کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔

www.Sukkurvi.com

۸۰ سال کی عبادت کا ثواب

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ:

''جو آدمی جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اُٹھنے سے پہلے اسی (۸۰) مرتبہ یہ دُرود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اَسّی سال کے گناہِ صغیرہ معاف کر دیتے ہیں اور اَسّی سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔'' (فضائلِ دُرود)

عام طور پر مسجدوں میں اس درود شریف کا کتبہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، ورنہ یاد کرنا بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ درود شریف یہ ہے:

www.sukkurvi.com

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدِ نِ النَّبِیِّ
الاُمِّیِّ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلِّمَ تَسْلِیْماً

تشریح

اَسّی مرتبہ درود شریف پڑھنے میں نہ اَسّی منٹ خرچ ہوتے ہیں، نہ چالیس منٹ خرچ ہوتے ہیں اور نہ بیس منٹ خرچ ہوتے ہیں، بمشکل دس منٹ خرچ ہوتے ہیں۔ دیکھئے! کہاں دس منٹ اور کہاں اَسّی سال کی عبادت کا ثواب! یہ اللہ کی رحمت کے سوا اور کیا ہے! دس منٹ اور اَسّی سال میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ لیکن افسوس! ہم دس منٹ بھی اپنے وقت میں سے نہیں نکال سکتے۔ جس پر

www.sukuvi.com

اللہ تعالیٰ اَسّی سال کی عبادت کا انعام عطا فرمارہے ہیں اور اَسّی سال کی گناہِ صغیرہ معاف فرمارہے ہیں۔ یہ محض برکت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درُود شریف پڑھنے کی! اس لئے جمعہ کے دن اس کا معمول بنالینا چاہیے۔

دوسوسال کے گناہ معاف

رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن دوسومرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھے اس کے دوسوسال کے گناہ (صغیرہ) معاف کردیں گے۔ (کنز العمال ص ۵۰۷، ج ۲)

www.Sukkurvi.com

جمعہ کے دن درُود شریف کی کثرت کرنا

جمعہ کے دن درُود شریف کثرت سے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔

چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ:

اَکْثِرُوْا عَلَیَّ مِنَ الصَّلٰوۃِ فِیْ کُلِّ یَوْمٍ فَاِنَّ صَلَاۃَ اُمَّتِیْ تُعْرَضُ عَلَیَّ فِیْ کُلِّ یَوْمِ الْجُمُعَۃِ فَمَنْ کَانَ اَکْثَرَھُمْ صَلَاۃً کَانَ اَقْرَبَھُمْ مِنِّیْ مَنْزِلَۃً. (رواہ البیہقی)

ترجمہ

"جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود

www.sukkurvi.com

شریف پڑھا کرو، کیونکہ ہر جمعے کو میری اُمت کا درُود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو جتنا درُود شریف پڑھے گا وہ مرتبہ کے لحاظ سے اتنا ہی زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔"

تشریح

کثرتِ درود شریف کی مقدار کے بارے میں حضرات علماءِ کرام کے تین قول ہیں:

○......جمعرات کے دن مغرب کے وقت سے جمعہ کے دن سورج غروب ہونے تک کم از کم تین سو مرتبہ درود شریف پڑھنا یہ ادنیٰ

www.Sukkurvi.com

درجہ ہے۔

O......ایک ہزار مرتبہ پڑھنا، یہ درمیانہ درجہ ہے۔

O......تین ہزار مرتبہ پڑھنا، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دُرود شریف پڑھنے والے کے لئے اِستغفار

ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

"جمعہ کے دن مجھ پر دُرود شریف بھیجا کرو، اس لئے کہ شبِ جمعہ روشن رات ہے اور جمعہ کا دن شاندار دن ہے، اس روشن رات اور شاندار دن میں تم مجھ پر کثرت سے

www.Sukkurvi.com

درُود شریف بھیجا کرو، اس لئے کہ ملائکہ

تمہارا درُود شریف میری خدمت میں پیش

کرتے ہیں اور میں تمہارے لئے دعا اور

استغفار کرتا ہوں" (سبل الهدی)

www.Sukkurvi.com

تشریح

اللہ اکبر! دیکھئے! اللہ پاک نے ہمارے لئے کیسی مہربانی فرمادی ہے! یہ ہم سب کی آرزو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لئے مغفرت کی دعا کرائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اللہ پاک نے ہمارے لئے یہ راستہ رکھا ہے کہ اگر ہم کثرت سے

جمعہ کے دن دُرود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو ہمارا دُرود فرشتوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوگا اور اس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے دعا واستغفار فرمائیں گے۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیثوں میں بھی بیان فرمائی ہے۔

یٰسین شریف کا ثواب

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسولِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآنِ کریم کا دل

www.Sukkurvi.com

(سورۂ) یٰسین ہے، جو شخص ایک مرتبہ (سورۂ) یٰسین پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے (نامۂ اعمال میں) اس کے ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے دس قرآنِ کریم پڑھنے کا ثواب لکھ دیں گے۔ (ترمذی، شعب الایمان)

(ف) اس لئے روزانہ صبح یا شام ایک مرتبہ یٰسین شریف پڑھنے کا معمول بنانا چاہئے اور اپنے مرحومین کو اُس کا ثواب پہنچانا چاہئیے تا کہ اُن کا بھی بھلا ہو۔

سورۂ دخان اور سورۂ یٰسٓ کی فضیلت

''حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

www.sukkurvi.com

روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص جمعہ کی رات میں (سورۂ) حٰمٓ دخان اور (سورۂ) یٰسین پڑھ لے تو وہ صبح اس حال میں اٹھے گا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔"

(رواه البيهقي وفي سنده ضعف)

۱۵ منٹ میں ۱۰ قرآن کریم کا ثواب

قرآنِ کریم بڑی مبارک کتاب ہے، اس کو دیکھنا عبادت ہے اسکی تلاوت بڑے اجر وثواب کا باعث ہے اور اس کو سمجھنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا اس کا اصل مقصد ہے، اس لئے عمل اور

www.Sukkurvi.com

تلاوت دونوں باتوں کا اہتمام کرنا چاہئے اور عمل کے ساتھ روزانہ ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ قرآنِ کریم کی تلاوت بھی کرنا چاہئے، ایک سال میں کم از کم ایک قرآنِ کریم ختم کرنا اس کا حق ہے اور نیز احادیث طیبہ میں قرآنِ کریم کی بعض چھوٹی سورتوں کے بڑے فضائل آئے ہیں اس لئے اگر مسلمان روزانہ یہ سورتیں بھی پڑھ لیا کریں تو مختصر وقت میں مختصر تلاوت ہوجایا کرے اور حق تعالیٰ کے فضل سے ثوابِ عظیم بھی ملتا رہے۔

سورۃُ الفاتحة

حدیث شریف میں سورہٗ فاتحہ کو دو تہائی قرآنِ

www.Sukkurvi.com

کریم کے برابر فرمایا ہے (کنز العمال ص ۵۵۶) اس لحاظ سے اس کو تین مرتبہ پڑھنے کا ثواب دو قرآنِ کریم پڑھنے کے برابر ہے۔

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعَالَمِينَ ○ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ○ مَالِكِ يَوۡمِ الدِّينِ ○ إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ○ اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيۡنَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا الضَّآلِّيۡنَ○

www.Sukuni.com

آیۃُ الکرسی

حدیث پاک میں اس کو چوتھائی قرآنِ کریم کے برابر فرمایا ہے (کنز العمال ص ف ۵۶۳، ج-۱) اس لحاظ سے چار مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا ثواب ایک قرآنِ کریم پڑھنے کے برابر ہے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ

لَا تَاْخُذُہٗ سِنَۃٌ وَّلَا نَوْمٌ لَّہٗ مَا فِی

السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ مَنْ

ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَہٗ اِلَّا بِاِذْنِہٖ

www.sukkurvi.com

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ
إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُدُهُ
حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝

سورۃ القدر

حدیث پاک میں اس کو چوتھائی قرآنِ کریم کے برابر فرمایا ہے (کنز) اس لحاظ سے چار مرتبہ اس سورۃ کو پڑھنے کا ثواب ایک قرآنِ کریم پڑھنے کے برابر ہے۔

www.Sukkurvi.com

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

إِنَّا أَنۡزَلۡنَاہُ فِی لَیۡلَةِ الۡقَدۡرِ ٥ وَمَا
أَدۡرَاکَ مَا لَیۡلَةُ الۡقَدۡرِ ٥ لَیۡلَةُ الۡقَدۡرِ
خَیۡرٌ مِنۡ أَلۡفِ شَھۡرٍ ٥ تَنَزَّلُ
الۡمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ فِیھَا بِإِذۡنِ
رَبِّھِمۡ ٥ج مِنۡ کُلِّ أَمۡرٍ ٥ سَلَامٌ قف
ھِیَ حَتَّی مَطۡلَعِ الۡفَجۡرِ ٥

سورۃُ الزلزال

حدیث شریف میں اس کو آدھے قرآنِ کریم
کے برابر فرمایا ہے (ترمذی) اس طرح اس کو دو مرتبہ

www.Sukkur.com

پڑھنے کا ثواب ایک قرآنِ کریم پڑھنے کے برابر ہے۔

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

إِذَا زُلۡزِلَتِ الۡأَرۡضُ زِلۡزَالَهَا وَأَخۡرَجَتِ الۡأَرۡضُ أَثۡقَالَهَا وَقَالَ الۡإِنۡسَانُ مَا لَهَا يَوۡمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخۡبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوۡحَى لَهَا يَوۡمَئِذٍ يَصۡدُرُ النَّاسُ أَشۡتَاتًا لِّيُرَوۡا أَعۡمَالَهُمۡ فَمَنۡ يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرًا يَرَهُ وَمَنۡ يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

www.Sukkurvi.com

سورۃ العادیات

ازروئے حدیث یہ سورت آدھے قرآنِ کریم کے برابر ہے (ابوعبید۔ تفسیر مواہب الرحمٰن ص ۲۶۷، ج ۷) اس طرح دو مرتبہ اس سورت کو پڑھنے کا ثواب ایک قرآنِ کریم کے برابر ہے۔

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

وَالۡعَادِیَاتِ ضَبۡحًا ○ فَالۡمُورِیَاتِ قَدۡحًا ○ فَالۡمُغِیرَاتِ صُبۡحًا ○ فَأَثَرۡنَ بِهِ نَقۡعًا ○ فَوَسَطۡنَ بِهِ جَمۡعًا ○ إِنَّ الۡإِنۡسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ○ وَإِنَّهُ عَلَى ذٰلِكَ لَشَهِيدٌ ○ وَإِنَّهُ لِحُبِّ

www.Sukkurvi.com

الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ○ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ
مَا فِي الْقُبُورِ ○ وَحُصِّلَ مَا فِي
الصُّدُورِ ○ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ
يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ ○

سورۃ التکاثر

اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب ازروئے حدیث ایک ہزار آیات پڑھنے کے برابر ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ○ حَتّٰى زُرْتُمُ

www.Sukkurvi.com

الْمَقَابِرَ ۝ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ ثُمَّ
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ كَلَّا
لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝ لَتَرَوُنَّ
الْجَحِيْمَ ۝ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝
ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝

سورۃ الکافرون

حدیث شریف میں اس سورت کو چوتھائی قرآنِ کریم کے برابر قرار دیا ہے (ترمذی) اس طرح چار مرتبہ اس کے پڑھنے کا ثواب ایک قرآنِ کریم کے برابر ہے۔

www.Sukurvi.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا
تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا
أَعْبُدُ ۝ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ۝
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ
دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝

سُورَۃُ النصر

حدیث شریف میں اس کو بھی چوتھائی قرآنِ کریم کے برابر فرمایا ہے (ترمذی) اس طرح چار مرتبہ اس کو پڑھنے کا ثواب ایک قرآنِ کریم کے

www.Sukkurvi.com

برابر ہے۔

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اِذَا جَاءَ نَصۡرُ اللّٰہِ وَالۡفَتۡحُ ۝

وَرَاَیۡتَ النَّاسَ یَدۡخُلُوۡنَ فِیۡ دِیۡنِ اللّٰہِ

اَفۡوَاجًا ۝ فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ

رَبِّکَ وَاسۡتَغۡفِرۡہُ اِنَّہٗ کَانَ تَوَّابًا ۝

سورۂ اخلاص کے فضائل

احادیثِ طیبہ میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں ذیل میں ان کا مختصر انتخاب پیش کیا جاتا ہے۔

www.Sukkurvi.com

ایک قرآن کریم کے برابر ثواب

سورۂ اخلاص کو احادیثِ طیبہ میں تہائی قرآن کریم کے برابر فرمایا ہے اور بعض احادیث میں تین بار پڑھنے کو پورے ایک قرآنِ کریم کے برابر قرار دیا ہے (بخاری وکنز الاعمال ص ۵۸۵، ج۔۱) اس طرح چھ مرتبہ اس کو پڑھنے سے دو قرآنِ کریم کا ثواب ملے گا۔

جنت میں ایک محل

رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص دس مرتبہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ پڑھے اللہ تعالیٰ

www.Sukkurvi.com

اسکے واسطے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ (کنز، ص:۵۸۵، ج:۱)

چار قرآنِ کریم کا ثواب

رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص فجر کی نماز کے بعد بارہ مرتبہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ پڑھے (تو یہ ثواب میں ایسا ہے) جیسے اس نے چار مرتبہ قرآنِ کریم پڑھا اور اس دن روئے زمین پر رہنے والوں میں وہ سب سے افضل شخص ہوگا بشرطیکہ گناہوں سے بچے۔ (کنز ص ۵۹۹، ج:۱)

پچاس سال کے گناہ معاف

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص

www.Sukurvi.com

پچاس مرتبہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہ (صغیرہ) معاف فرمادیں گے۔ (کنز العمال ص ۵۸۵، ج ۱)

ہزاروں ملائکہ کی صف بندی

ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور! معاویہ بن معاویہ المزنی کا انتقال ہوگیا ہے، کیا آپ اسکا نماز جنازہ پڑھنا پسند کرینگے؟ (آپ نے آمادگی ظاہر فرمائی) چنانچہ جبرئیل علیہ السلام نے اپنا پَر مارا جس سے (درمیان میں) نہ کوئی درخت

باقی رہا اور نہ کوئی پردہ حائل رہا (درمیان کی ہر چیز) پامال ہو کر رہ گئی اور ان کا جنازہ آپ کے سامنے کیا گیا یہاں تک کہ آپ نے اس کو دیکھا اور اس پر نمازِ جنازہ پڑھی اور فرشتوں کی دو صفوں نے بھی ان پر نمازِ جنازہ ادا کی، ہر صف میں ستر ہزار فرشتے تھے، میں نے کہا اے جبرائیل! کس عمل کی بدولت منجانبِ اللہ ان کو یہ مرتبہ ملا! جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ سے محبت رکھنے اور اس سورت کو آتے جاتے، کھڑے بیٹھے ہر حال میں پڑھنے کی وجہ سے (ان کو یہ مرتبہ ملا ہے) (کنز العمال ص ۶۰۱، ج۔۱)

www.Sukkurvi.com

(ف) آپ بھی سورۂ اخلاص کا حسبِ استطاعت معمول بنانے پر مذکورہ بالا فضائل اور ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ سورۂ اخلاص یہ ہے۔

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ۝ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

آسان ایصالِ ثواب

ایصالِ ثواب برحق ہے اور یہ زندہ اور مردہ دونوں کو ہو سکتا ہے (شامیہ) اس لئے اپنی اولاد اور ماں باپ کو ان کی زندگی میں اور ان کے انتقال کے بعد دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے اور ایصالِ ثواب

www.Sukkurvi.com

یہ ثواب بخشا جائے گا اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا اور ایصالِ ثواب کرنے والے کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی بلکہ دوسروں کو ثواب پہنچانے کا اس کو مزید ثواب ملے گا۔(درمختار مع الشامیة) اس لئے روزانہ اس رسالہ کو پڑھنے کا معمول بنالیں۔

ایصالِ ثواب کا طریقہ

ایصالِ ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اپنے والدین اور اہل وعیال کو ثواب پہنچانا ہو تو یوں کہیں:

”اے اللہ! جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میرے والدین اور میرے اہل

www.Sukkurvi.com

وعیال کو پہنچادیجئے۔ "آمین"

اگر سب کو ثواب پہنچانا ہو تو اس طرح کہیں:۔

اے اللہ! جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو پہنچا دیجئے خواہ ان کا انتقال ہو چکا ہو یا فی الحال زندہ ہوں یا آئندہ قیامت تک پیدا ہوں گے انسان جنات سب کو پہنچا دیجئے۔آمین۔

جب قبرستان جائیں تو جس کی قبر پر جائیں اس کو کچھ پڑھ کر ثواب پہنچادیں اور اس کے لئے مغفرت کی دعا کریں اور نیز بارہ مرتبہ قُلْ هُوَ

www.Sukuni.com

اللّٰہُ أَحَدٌ پڑھ کر اس قبرستان میں جتنے مسلمان مرد وعورت مدفون ہیں سب کو ثواب پہنچا دیں مثلاً یوں کہدیں:۔

اے اللہ بارہ مرتبہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ پڑھنے کا ثواب اس قبرستان کے سارے مسلمانوں کو پہنچا دیجئے اور ان سب کی مغفرت فرما دیجئے اور اُن پر رحم فرمایئے۔آمین

مسئلہ: فرائض اور واجبات کا ثواب پہنچانا منع ہے البتہ نفل کاموں، نفل نمازوں، تلاوت، تسبیحات اور دوسرے غیر واجب اعمال کا ثواب

www.sukkuryi.com

پہنچانا جائز ہے۔(شامیة)

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْن.

O

بندہ عبدالرؤف سکھروی

۸؍رمضان المبارک ۱۴۳۵ھ

جامعہ دارالعلوم کراچی

www.Sukkurvi.com

www.Sukkurvi.com

حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب مدظلہم

کی دیگر مفید مطبوعات ایک نظر میں

- دعا کی اہمیت اور اس کے آداب
- دعاءِ والہانہ
- دعاءِ عرفات
- حج کی دعائیں
- دعاءِ انس بن مالک رضی اللہ عنہ
- عمل مختصر اور ثواب زیادہ
- روزانہ کے معمولات
- اسماء اعظم اور اسماء حسنٰی
- درود وسلام کا حسین مجموعہ

مکتبۃ الاسلام کراچی

www.Sukkurvi.com